

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِيُوكَرَ كَيْ اِيْكَ چِيرُٹِيْ كَيْ بَارَ بَارَ مِينَ سُوَالَ وَجَوابَ

الاستفقاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک چیرٹی نے رمضان سے کئی ماہ قبل اس مدمیں چندہ جمع کیا کہ اس سے وہ رمضان کے آخری عشرے میں مدینہ شریف کے لوگوں کو افطاری کروائیں گے۔ لوگوں نے اس پر دل کھول کر چندہ دیا اور پھر عید سے چھ روز قبل انہوں نے ایک چھوٹا سا اشتہار دیا کہ بقیہ چندہ کسی اور پروجیکٹ میں خرچ کیا جائے گا کیا ان کا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

سائل: عادل حامد۔ سکاٹ لینڈ (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي التُّورَ وَالصَّوَابَ

چیرٹی والوں کا ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے جس کام کے لیے چندہ کیا ہے اسی میں خرچ کرنا ضروری ہے اور اگر انہوں نے اسی کام خرچ کیا لیکن کچھ چندہ باقی بچ گیا تو ان چیرٹی والوں پر لازم ہے کہ وہ بقیہ چندہ ان لوگوں کو واپس دیا جائے جن سے لیا تھا یا وہ لوگ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اسی میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر کسی اور پروجیکٹ میں خرچ کرنا حرام حرام ہے۔ اجازت کے لیے ایک چھوٹا سا اشتہار ہی کافی نہیں ہوگا اور وہ بھی ایسا کہ صرف خبر دینا ہے کہ "بقیہ چندہ دوسرے پروجیکٹ میں استعمال کیا جائے گا" نہ کہ اجازت لینا لہذا ان چیرٹی والوں کو چاپیے فوراً سے پہلے بقیہ چندہ دینے والوں کو واپس کریں یا ان سے صراحتاً اجازت لین اور وہ جس کام کے لیے اجازت دیں اسی میں خرچ کیا جائے اور اگر پتا نہ چلے کہ یہ چندہ کن سے لیا تھا تو جس طرح کے کام میں چندہ لیا تھا اسی میں دوسرے سال خرچ کر دیا جائے مثلاً مدینہ شریف میں کروائی جانے والی رمضان کے آخری عشرے کی افطاری کا بچا ہوا چندہ آیندہ سال کے رمضان کے آخری عشرے کی افطاری پر خرچ کر دیا جائے۔

جیسا کہ درمختار میں اس چندے کے میں بارے میں یہ حکم موجود ہے جو کسی فقیر کے کفن کے لیے جمع کیا گیا تھا : "فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ رُّدٌ لِّمُصَدِّقٍ إِنْ عُلِمَ وَإِلَّا كُفِنَ بِهِ مِثْلُهُ، وَإِلَّا ثُصُّدُقَ بِهِ"

اگر چندہ سے کچھ بچ جائے تو دینے والا اگر معلوم ہو تو اسے واپس کیا جائے گا اور نہ اس جیسے فقیر کے کفن پر صرف کیا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔

(الدر المختار ج 2 باب صلوٰۃ الجنائز ص 206)

جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرَّحْمَن فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: چندہ کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسد واپس دیا جائے یا وہ جس کام کے لئے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو، بے ان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے، ہاں جب ان کا پتا نہ چل سکے تو اب یہ چاہئے کہ جس طرح کے کام کے لئے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں (یعنی استعمال کریں) مثلاً تعمیر مسجد کا چندہ تھا مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر

میں اٹھائیں ، غیر کام مثلاً تعمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں ۔

(فتاویٰ رضویہ ج 16 ص 206)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

**کتبہ ابوالحسن محمد قاسم ضیاء قادری**

Date:30-10-2018

## Question and answer regarding a particular charity in U.K.

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

**What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: A certain charity collected some donations several months before Ramadān to arrange the Iftār of people in al-Madīnah al-Munawwarah during the last ten days of Ramadān. People donated to this cause wholeheartedly, but then six days before ‘Eid, the charity sent out a small notice saying that the remaining money will be spent on another project. Is it permissible for them to do this?**

Questioner: Adil Ahmad from Scotland, U.K.

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنَ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هَدِيَةُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is absolutely not permissible for the charity to do this; it is essential for them to only spend in that cause which they collected for. If, after spending in that particular cause, there is some money left over, then it is essential that the charity return this remaining money back to the original people who donated it in the first place, or that the charity spends it in any cause the people specify from that moment in time. It is absolutely, totally, and utterly harām to spend this money on any other cause without their permission. A small notice will not suffice for seeking their permission; they were merely informed that ‘the rest of the money will be used for another project’, their permission was not sought. Thus, the charity needs to return the money straightaway to those who originally donated from the onset, or seek permission explicitly, and whatever cause they give permission for, money should be spent only for such said purpose. If one cannot come to know as to who originally donated the money, then it should be spent on a similar cause the following year. For example, the money remaining from the iftār of the last ten days of Ramadān for al-Madīnah al-Munawwarah should be spent on the iftār of the last ten days of the following Ramadān for al-Madīnah al-Munawwarah the next year.

Just as the ruling for the money gathered for the shroud of a faqīr [poor person] is mentioned in Durr Mukhtār,

“فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ رَّدَّ لِلْمُصَدِّقِ إِنْ غَلِمْ وَإِلَّا كُفَّنَ بِهِ مَثْلُهُ، وَإِلَّا تُصَدِّقَ بِهِ”

“If anything remains from the money given, then if one know of the person who gave it initially, so it should be returned to such said person. Otherwise, the money should be spent on the shroud for a similar faqīr or given to charity.”

[al-Durr al-Mukhtār, vol 2, pg 206]

Just as Sayyidī Alā Hazrat Imām Ahmad Razā Khān, may Allāh shower mercy upon him, states in Fatāwā Ridawiyyah that it is essential that the money leftover from the amount donated is returned back to the original person who gave it as per his [original] share. Or it is used in a cause which the person gives permission for; it is harām [unlawful] to spend it without permission. Yes, when one cannot come to know of the [original] person, then one should use it in a similar cause as to why it was collected for in the first place. For example, money was collected for the building of a Masjid, but the Masjid has now been built, then one should use this money for any other building work of the Masjid also; one should not use it for a dissimilar cause e.g. building a madrasah. If one does not come across a similar cause, then one should donate this remaining money to faqīrs [the poor].

[Fatāwā Ridawiyyah, vol 6, pg 206]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كتبه أبو الحسن محمد قاسم ضياء قادری

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haider Ali